

گلاسری (لغت)

ایپ : ایپ ایک ایسا کمپیوٹر پروگرام ہوتا ہے جو ڈیوائس پر رن ہوتا ہے۔ یہ چوکور آئیکون کی شکل میں نظر آتا ہے۔ کچھ ایپس مفت ہوتے ہیں، کچھ ایپس خریدنے پڑتے ہیں۔ اسکائپ ، واٹس ایپ اور لنکڈ ان ایپس کی کچھ مثالیں ہیں

کوکیز : کوکیز ایک چھوٹی ٹیکسٹ فائل ہوتی ہے۔ جو آپ کے کمپیوٹر میں سیوو ہوتی ہے۔ یہ ویب سائٹ کو آپ کے متعلق معلومات یاد رکھنے میں مدد دیتی ہے جب آپ ویب سائٹ استعمال کر رہے ہوں۔ مثلاً اگر آپ ہوائی جہاز کا ٹکٹ خرید رہے ہیں تو کوکیز یہ یاد رکھیں گی کہ آپ نے کون سے ٹکٹ کا انتخاب کیا اور جس وقت آپ ٹکٹ خرید رہے ہوں گے تو کوئی دوسرا وہی ٹکٹ نہیں لے سکے گا۔

ویب سائٹس آپ سے پوچھتی ہیں کہ کیا آپ کوکیز استعمال کرنے کے لئے ان سے متفق ہیں۔ آپ ویب سائٹ کی کوکیز استعمال کی درخواست قبول یا مسترد کر سکتے ہیں۔ کبھی آپ ضروری کوکیز پر اتفاق بھی کر لیتے ہیں اور دوسری کوکیز کو مسترد کر دیتے ہیں جیسے مارکیٹنگ کی کوکیز۔

کچھ ویب سائٹس آپ کو انہیں استعمال نہیں کرنے دیتیں اگر آپ کوکیز کی درخواست مسترد کر دیں تو لیکن دوسرے استعمال کر سکتے ہیں۔

ڈیوائس: اس گائیڈ میں ڈیوائس کا مطلب اسمارٹ فون، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا ٹیبلیٹ ہے۔

ڈاؤن لوڈ: ڈاؤن لوڈ کا مطلب اپنے ڈیوائس پر کچھ کاپی کرنا ہوتا ہے۔

عام طور پر آپ اپنے ڈیوائس پر ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کے پاس اپنی کاپی موجود ہو۔

ای میل: ای میل ایک ایسا پیغام ہوتا ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے ایک شخص دوسرے شخص کو الیکٹرونکلی بھیجتا ہے۔

فیس بک: سوشل میڈیا ایپ ہے۔

انسٹاگرام: سوشل میڈیا ایپ ہے۔

انٹرنیٹ: انٹرنیٹ کروڑوں کمپیوٹرز اور الیکٹرونک ڈیوائسز کا نیٹ ورک ہے۔

یہ بے تحاشا معلومات رکھتا ہے۔ یہ آپ کو مختلف چیزیں جیسا کہ ویڈیو کالز

کرنے، کھانے کی خریداری، بینکنگ اور بہت سی دوسری چیزوں کی اجازت

دیتا ہے۔ یہ تصور کرنا فائدہ مند ہوگا کہ انٹرنیٹ ایک شہریا حتیٰ کہ گلوب جیسا ہے۔

لنک: لنک ایسی تصویر یا لفظ ہوتا ہے جس پر کلک کرنے سے آپ مختلف ویب پیجز یا ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اکثر لنکس مختلف رنگوں میں لکھے ہوتے ہیں یا انڈر لائن ہوتے ہیں۔

اسکائپ: ویڈیو کانگ ایپ ہے۔

سوشل میڈیا : سوشل میڈیا ایسی ویب سائٹس یا ایپس ہیں جو آپ کو معلومات، تصاویر، ویڈیوز اور دیگر چیزیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی اجازت دیتی ہیں۔ آپ سوشل میڈیا کو سوشلائز اور دوسروں سے رابطے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹوئٹر، انسٹاگرام اور فیس بک سوشل میڈیا ویب سائٹس اور ایپس کی چند مثالیں ہیں۔

اسٹوریج اسپیس: تمام ایپس آپ کی ڈیوائس کی میموری میں محفوظ (سیوو) ہوتے ہیں۔ یہ اسٹوریج اسپیس کہلاتی ہے۔ آپ اسٹوریج اسپیس کو شیڈ اور ایپس کو ڈبوں کی طرح سمجھیں۔ ڈبوں کی مخصوص تعداد ہی شیڈ میں رکھی جاسکتی ہے۔

ٹیبلٹ: ٹیبلٹ کمپیوٹر اسکرین یا بڑے اسمارٹ فون کی طرح نظر آتا ہے۔ یہ کمپیوٹر کی طرح تمام تو نہیں لیکن کچھ کام کر سکتا ہے۔ اس کا ٹچ اسکرین ہوتا ہے۔

ٹچ اسکرین: ٹچ اسکرین ایسی اسکرین ہے جس کو چھوا جائے تو وہ ریسپانس کرتی ہے۔ آپ آئیکون کو ٹچ کریں گے تو وہ کھل جائے گا۔

ٹوئٹر: سوشل میڈیا ایپ ہے۔

ویڈیو کانگ: ویڈیو کانگ فون کی طرح ہوتی ہے جس میں آپ دوسرے شخص کی ویڈیو کال کے دوران دیکھ بھی سکتے ہیں۔ آپ ویڈیو کال کے لئے فیس ٹائم، اسکائپ اور واٹس ایپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دیگر ایپس بھی دستیاب ہیں۔

ویب سائٹ ایڈریس: ویب سائٹ ایڈریس وہ ایڈریس ہوتا ہے جس کے ذریعے لوگ آپ کی ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ عام طور پر www یا <https://> سے شروع ہوتا ہے۔

اگر ویب سائٹ ایک گھر ہے تو ویب سائٹ ایڈریس وہ پتا ہے جس کے ذریعے آپ انٹرنیٹ

پر وہ گھر ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ویب سائٹ ایڈریس کے لئے دوسرا لفظ یو آر ایل ہے۔

واٹس ایپ: میسج اور ویڈیو کال کی ایپ ہے۔

مزید تعاون کے لئے

مانچسٹر ڈیجیٹل چیمپینز کی جانب سے فون پر معاونت
آپ کے پاس ایسا ڈیوائس ہے جو انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہے؟
اس کے استعمال کے لئے مدد کی ضرورت ہے؟
ہمارے پاس ڈیجیٹل چیمپینز کی ٹیم موجود ہے جو ٹیلی فون پر مانچسٹر کے رہائشیوں
کو مدد فراہم کرے گی۔ پندرہ زبانوں میں کالز کی جاسکتی ہیں۔

پر کال یا **07860 064 128**

پرای میل کریں۔ **digitalinclusion@manchester.gov.uk**

اپنا نام بتائیں ہم آپ کو خود کال کریں گے اور مدد فراہم کریں گے۔

کووڈ ۱۹ کے دوران رابطے میں رہیں

آن لائن آنے کے لئے اگر آپ کومدد اور سپورٹ کی ضرورت ہے تو کمیونٹی کووڈ ۱۹ سپورٹ ہیلپ لائن کے نمبر

0800 23 46123 پر کال کریں۔ یا

digitalinclusion@manchester.gov.uk پر ای میل کریں۔

مزید معلومات کے لئے:

https://www.manchester.gov.uk/downloads/download/7239/stay_connected_through_covid-19_leaflets

This guide was produced in partnership with the following groups, networks and organisations:



MANCHESTER
CITY COUNCIL

All information provided at time of writing and distribution is true and correct but may change without notice. We will endeavor to keep information updated each month. Please check out the website for the latest downloadable version: <https://buzzmanchester.co.uk/>

For further information about this guide, please email: simon.kitchin@gmmh.nhs.uk or lorna.dawson@gmmh.nhs.uk

[Version 7 Android_Urdu_October 2020]

